

سیلی برامپٹن: ہمارا اپنا شہر۔ ہمارا اپنا دن۔

برامپٹن، آن - ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں بروز ہفتہ مورخہ 9 جون کو دن 11 تا رات 9 بجے تک منعقد ہونے والے سیلی برامپٹن سے سٹی میں موسم گرما کا باضابطہ آغاز ہو جائے گا۔ اونٹیریو میں منعقد ہونے والی تقریبات اور تہواروں میں سے دو مرتبہ چوٹی کے 100 تہواروں کے طور پر انعام یافتہ یہ موقع کمیونٹی کی ایسی سالانہ تقریب ہے جس میں برامپٹن کی کھلی، دوستانہ اور متنوع کمیونٹی کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع میسر آتا ہے اور شہریوں کو سٹی کی ترغیبات اور سروسز کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔

پارکنگ، ڈاؤن ٹاؤن کے چار گراجوں میں دستیاب ہو گی۔ رہائشیوں کے پاس برامپٹن ٹرانزٹ کے ذریعے ایک ڈالر کے ساتھ سیلی برامپٹن تک آنے جانے کی سہولت بھی موجود ہو گی۔ اس کا اطلاق صرف نقد کرایوں پر ہی ہو گا۔

اس سال کی تقریبات پورے ڈاؤن ٹاؤن میں منعقد کی جائیں گی اور ان میں درج ذیل دلچسپ اور خاندانوں کے لیے دوستانہ سرگرمیاں شامل ہوں گی:

گارڈن اسکوائر، دن 11 - رات 9

- کمیونٹی کی سرگرمیوں اور تفریح کے ساتھ گارڈن اسکوائر براہ راست ہو جائے گا۔ مرکزی اسٹیج پر تمام مقامی تفریح پیش کی جائے گی جن میں ڈانس کی تعاملی کلاسز اور موسیقی کے براہ راست مظاہرے بھی شامل ہوں گے۔
- پینٹ ہائی نمبر بھی اس کا حصہ ہو گا: بڑی موسیکا چیئر پر کمیونٹی آرٹ پروجیکٹ، ایک تعاملی ویڈیو بوتھ، مشہور زمانہ مائی برامپٹن سائن اور مزید بہت کچھ!

مین اسٹریٹ نارتھ، دن 11 - رات 9

- سیلی برامپٹن کے مقصد کے رنگ، 15 سال سے زائد عمر کے فروخت کنندگان گلیوں میں معتبر ثقافتی پکوان فروخت کریں گے۔ ڈاؤن ٹاؤن کے کاروبار بھی اس رنگا رنگ موقع میں شامل رہیں گے اور اپنے توسیع شدہ ڈھابوں اور سائیڈ واکس پر اشیاء فروخت کریں گے۔
- برامپٹن کے کثیر الثقافتی تہوار کو چار چاند لگانے کے لیے کارابرام بھی اسٹیج پر جلوہ گر ہو گا۔ دل کی دھڑکنیں نیز کرنے والے اس مظاہرے میں روایتی ڈانس، موسیقی اور تفریح بھی شامل ہو گی۔

کوئین اسٹریٹ ایسٹ، دن 11 - شام 4

- کوئین اسٹریٹ ایسٹ پر کمیونٹی پکنک میں شامل ہو جائیں اور دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ مل کر کھائیں پینیں۔
- بچوں کے لیے فوٹوگرافی کی دلچسپی سے بھرپور دیوبیکل گاڑیوں مثلاً کریں اور بکٹ ٹرک وغیرہ کے ساتھ فوٹوگرافی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔

کوئین اسٹریٹ ویسٹ، دن 11 - شام 4

- شرکت کرنے والی کھیلوں کی تنظیموں کے پاس جائیں اور ان کی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ برامپٹن بیسٹ، برامپٹن مانٹر لیکروز، برامپٹن مانٹر باسکٹ بال، ریپر 905 اور ایک MLS کپ ٹرافی ٹور کے ذریعے کھیلوں کی سرگرمیوں کو نمایاں کیا جائے گا۔

مین اسٹریٹ ساؤتھ اور کین ولینز اسکوائر، دن 11 - شام 4

- معلوماتی بُوتھوں پر جا کر سٹی کی سروسز کے بارے میں مزید جانیں
- اس کے علاوہ اس سال ریکرینیشنز بائیک فیسٹیول واپس آ رہا ہے، بشمول بائیک روڈیو، بائیسائیکل کے بارے میں معلومات، انعامات اور پورے خاندان کی دلچسپیوں کا سامان!
- الیکشنز کی "Make Your Mark" مہم ملاحظہ فرمائیں اور شمولیت کے مواقع کے بارے میں مزید جانیں۔

بروز ہفتہ، مورخہ 9 جون کے لیے سڑکوں کی درج ذیل بندشیں مؤثر ہوں گی:

دن 10:00 - سہ پہر 5:00

- کوئین اسٹریٹ، چیپل اسٹریٹ/تھیٹر لین تا جارج اسٹریٹ تک
- مین اسٹریٹ ساؤتھ، کوئین اسٹریٹ تا ویلنگٹن اسٹریٹ

صبح 10:00 - رات 10:00

- مین اسٹریٹ نارتھ، کوئین اسٹریٹ تا نیلسن اسٹریٹ/تھیٹر لین

"سیلی برامپٹن سے برامپٹن میں موسم گرما کا باضابطہ آغاز ہو جاتا ہے۔ پورے اونٹیریو سے عوام الناس کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور رنگا رنگ دلچسپیوں سے بھرپور مفت تفریحی مواقع کا لطف اٹھائیں اور ہمارے رہائشیوں کے ساتھ مربوط ہو جائیں۔ خاندان بھر کی تفریح کے لیے کئی شاندار تفریحی سرگرمیاں موجود ہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے برامپٹن میں تشریف نہیں لائے، تو یہ ایک شاندار موقع ہے جس پر آپ تشریف لا کر ہمارے شہر کے پرکشش نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ہمارے ڈاؤن ٹاؤن میں منعقد ہونے والے تہواروں سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو برامپٹن میں جلد دیکھنے کے متمنی ہیں!"

- مینر لنڈا جیفری

اس شاندار موقع کے بارے میں مزید معلومات اور موسم گرما کی دیگر سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلات برامپٹن کے سیر و سیاحت کے رہنماء کتابچے میں موجود ہیں - اس ویب سائٹ www.tourismbrampton.ca سے ڈاؤن لوڈ کریں یا سٹی کی ویب سائٹ www.brampton.ca/events ملاحظہ کریں۔

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر ہو۔ ہمیں فالو کریں www.brampton.ca اور www.brampton.ca فیس بک۔ مزید جاننے کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔